

S5-GC80K

سولس تھری فیز انورٹرز

مؤثر

- 9 ایم پی پی ٹی ڈیزائن کی بہترین کارکردگی 98.7% ہے
- ڈی سی/اے سی تناسب 150% سے زیادہ
- 16A تک سٹرنگ کرنٹ زیادہ کرنٹ والے بائیفیشل ماڈیولز کے ساتھ بلکل مماثل ہے۔

محفوظ

- IP66
- ماڈیول کی بہتر کارکردگی کے لیے پی آئی ڈی ریکوری میں ساخت شدہ (اختیاری)
- اے ایف سی آئی تحفظ، آگ کے خطرے کو فعال طور پر کم کرتا ہے۔
- طویل زندگی کے لیے عالمی سطح پر تسلیم شدہ برانڈڈ اجزاء

سمارٹ

- نائٹ ایس وی جی فنکشن
- انٹیلیجنٹ سٹرنگ مانیٹرنگ، سمارٹ ۱-۷ curve اسکین
- آسان آپریشن سے ریموٹ فرم ویئر اپگریڈ کریں

اقتصادی

- پاور لائن مواصلات (پی ایل سی) (اختیاری)
- ڈی سی سائیڈ "۷" کنیکٹر کو سپورٹ کرتی ہے

**ماڈل:**

S5-GC80K



360° کا نظارہ



S5-GC80K

ڈیٹا شیٹ

80K	ماڈل
ان پٹ ڈی سی	
1100 V	زیادہ سے زیادہ ان پٹ وولٹیج
600 V	وولٹیج کی درجہ بندی
195 V	اسٹارٹ اپ وولٹیج
180-1000 V	ایم پی پی ٹی وولٹیج رینج
9*32 A	زیادہ سے زیادہ ان پٹ کرنٹ
9*40 A	زیادہ سے زیادہ شارٹ سرکٹ کرنٹ
9/18	ایم پی پی ٹی نمبر/زیادہ سے زیادہ ان پٹ سٹرنگز نمبر
آؤٹ پٹ اے سی	
80 kW	درجہ بندی آؤٹ پٹ پاور
88 kVA	زیادہ سے زیادہ ظاہری پیداواری پاور
88 kW	زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ پاور
3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V	رینڈم گروڈ وولٹیج
50 Hz / 60 Hz	رینڈم گروڈ فریکوئنسی
121.6 A / 115.5 A	رینڈم گروڈ آؤٹ پٹ کرنٹ
133.7 A	زیادہ سے زیادہ پیداوار کرنٹ
0.99< (0.8 لیڈنگ سے لیگنگ تک)	پاور فیکٹر
<3%	ٹی ایچ ڈی آئی
اہلیت/کارکردگی	
98.7%	زیادہ سے زیادہ کارکردگی
98.3%	ای یو کارکردگی
پروٹیکشن	
جی ہاں	ڈی سی ریورس پولاریٹی پروٹیکشن
جی ہاں	شارٹ سرکٹ سے حفاظت
جی ہاں	ؤٹ پٹ کرنٹ پروٹیکشن
ڈی سی ٹائپ II/اے سی ٹائپ II	سرچ پروٹیکشن
جی ہاں	گروڈ مانیٹرنگ
جی ہاں	اپنی آئلیڈنگ سے حفاظت
جی ہاں	درجہ حرارت سے تحفظ
جی ہاں	سٹرنگز/مانیٹرنگ
جی ہاں	I/V خمیدہ سکیمنگ
جی ہاں ⁽¹⁾	مربوط اے ایف سی آئی (ڈی سی آرک فالٹ سرکٹ پروٹیکشن)
اختیاری	مربوط پی آئی ڈی بحالی
جی ہاں	مربوط ڈی سی سوئچ
اختیاری	مربوط اے سی سوئچ
عمومی ڈیٹا	
mm 314.5*567*1050 (مع اے سی سوئچ~)	طول و عرض (ڈبلیو* ایچ* ڈی)
85 kg	وزن
بغیر ٹرانسفارمر	ٹوپولوجی
<2 W	خود کھپت (رات)
-30 ~ +60°C	آپریٹنگ ایمپنٹ درجہ حرارت کا دائرہ
0-100%	متعلقہ نمی
IP66	داخلی تحفظ
انٹلی جینٹ ریڈیڈینٹ فین کولنگ	ٹھنڈک کا تصور
4000 m	زیادہ سے زیادہ آپریشن کی اونچائی
G98, G99, VDE-AR-N 4105 / VDE-AR-N 4110 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530	گروڈ کنیکشن کا معیار
IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4	سیفٹی/ای ایم سی معیار
خصوصیات	
MC4 کنیکٹر	ڈی سی کنیکشن
او ٹی ٹرمینل (زیادہ سے زیادہ 185 ملی میٹر ²)	اے سی کنیکشن
LCD	ڈسپلے
Wi-Fi, GPRS, PLC, اختیاری: RS485	کمپیوٹیشن